

دفتر برائے تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیشن
نئی دہلی

2 اکتوبر 2020

پریس ریلیز

گاندھی جی کی یوم پیدائش کی مناسبت سے جامعہ میں متعدد پروگراموں کا انعقاد

کیمپس میں شجر کاری سمیت فریڈم رن ، فلم فیسٹیول اور لیکچرز کا اہتمام

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مہاتما گاندھی کی 151 ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے کیمپس میں آج متعدد پروگراموں کا اہتمام کیا۔

کیمپس میں فٹ انڈیا فریڈم رن کے عنوان سے جاری پروگرام کا یونیورسٹی کے رجسٹر اے پی صدیقی نے پرچم کشائی کے ذریعے آغاز کیا۔ اس پروگرام میں چیف پروکٹر اور تقریب کے مہمان اعزازی پروفیسر وسیم اے خان، پروفیسر مہتاب عالم خان ، ڈی ایس ڈبلیو اور پروفیسر اقرار ایم خان سمیت یونیورسٹی کے طلباء ، اساتذہ اور نان ٹیچنگ اسٹاف نے شرکت کی ۔

یونیورسٹی اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد فریڈم رن کا اختتام یونیورسٹی کے مجیب باغ کمیونٹی سنٹر پر ہوا جہاں رجسٹرار ، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے مہم چلائی۔ اس موقع پر رجسٹرار کے علاوہ ڈی ایس ڈبلیو ، چیف پراکٹر ، سیکورٹی ایڈوائزر ، اساتذہ اور یونیورسٹی کے دیگر افسران نے حصہ لیا ۔

نیشنل الائنس آف پیپلس موومنٹس (این اے پی ایم) کے کنوینر مسٹر ومل بھائی نے زوم پر ہم عصر ہندوستان میں گاندھی کا رشتہ کے موضوع پر ایک آن لائن لیکچر دیا جس میں یونیورسٹی کے طلباء اور ملازمین نے شرکت کی۔

اس موقع پر ایک ڈیجیٹل پوسٹر بنانے کا مقابلہ بھی منعقد کیا گیا، جس کے لئے شرکا کو اپنا پوسٹر آن لائن جمع کروانے کو کہا گیا تھا۔ یہ پروگرام یونیورسٹی کے ڈی ایس ڈبلیو آفس ، این ایس ایس اور این سی سی یونٹوں کے مشترکہ کوششوں سے عمل میں آیا۔

بتا دیں جامعہ میں گذشتہ ایک ماہ میں 'گاندھیائی خیالات اور فلسفہ' پر تین بین الاقوامی ویبنارز کا اہتمام کیا جا چکا ہے ، جہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ نے گاندھیائی فکر کو پھیلانے کے لئے ریاستہائے

متحدہ امریکہ کے آکسفورڈ ، برطانیہ کے سینٹل نیشنل یونیورسٹی ، جنوبی کوریا (آر او کے) اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سیکر امینٹو ، امریکہ کے اشتراک سے کئی پروگراموں کا انعقاد کیا ہے۔

مہاتما گاندھی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے اے جے کے ایم سی آر سی جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ایک فلم فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا جہاں فلموں کی نمائش کی گئی۔ سینٹر کی جانب سے فلم سازوں اور فلمی اسکالروں کے مختصر انٹرویو بھی 28 ستمبر تا 2 اکتوبر 2020 کے درمیان دکھائے گئے۔ یہ پروگرام یونیورسٹی کے آفشلی یوٹیوب چینل پر بھی اپ لوڈ کئے گئے ہیں جسے درج ذیل لنک پر دیکھا جا سکتا ہے۔

<https://www.youtube.com/channel/UCZOGZZ8jpsnBUffIL-47UZw>

وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ گاندھی جی کی مستقل وابستگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی ان نیک روحوں میں سے ایک تھے جنہوں نے مشکل وقت میں جامعہ کی سر پرستی کی۔ ، جب جامعہ معاشی بحران کا شکار ہوئی اور یونیورسٹی بند کرنے کی بوبت آگئی تو گاندھی جی نے کہا ، جامعہ کے لئے اگر مجھے بھیک مانگنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گا لیکن یونیورسٹی بند نہیں ہونی چاہئے اور یوں انہوں نے یونیورسٹی کے لئے بڑا تعاون کیا۔

انہوں نے کہا گاندھی 20 ویں صدی کی وہ واحد شخصیت ہے جس کا گہرا سیاست سے سماج تک ہر تجارت وغیرہ میں پڑا۔ گاندھی شعبے یعنی تعلیم ، سیاست ، مذہب ، اخلاقیات ، معاشرت ، کاروبار اور آفاقی انسان تھے جو عدم تشدد کے نظریے پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا گاندھی کی شخصیت ہمارے لئے ہمیشہ ہمت ، صداقت ، انصاف ، محبت اور ہمدردی کی علامت رہے گی۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک ایسا اولین ادارہ تھا جس نے گاندھی جی کی بنیادی تعلیم کے نظریے کو اپنے یہاں نافذ اور اسے فروغ دیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ گاندھی جی کی زندگی ، افکار اور فلسفہ پر متعدد پروگراموں کے ذریعہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں ، یونیورسٹی کے ذریعہ شائع ہونے والے اردو کے ایک بڑے ادبی جریدے 'جامعہ' نے گاندھی جی پر ایک خصوصی شمارہ شائع کیا ہے۔ اس میں مشرقی اور عرب اسکالرز کے تعاون سے لکھے گئے مضامین شامل ہیں جس سے گاندھی کی شخصیت اور فکر و فلسفہ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

احمد عظیم

پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر